

اپنے جسم اور دماغ کو
سمجھنا اور استعمال کرنا

گھرانوں کے وسائل

فون پر زبانی ترجمے کی خدمت

اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہیں تو براہ مہربانی اپنے بچے کے پری اسکول یا ابتدائی بچپن کی خدمت (early childhood service) سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو اپنا سوال پوچھنے کے لئے زبانی مترجم کی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی ٹیلی فون انٹریپرٹ سروس کو 131 450 پر کال کریں اور اپنی زبان کا زبانی مترجم طلب کریں۔ آپریٹر آپ کے فراہم کردہ فون نمبر پر کال ملائے گا اور لائن پر ایک زبانی مترجم مہیا کر دے گا جو آپ کی معاونت کرے گا۔ آپ سے اس خدمت کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔

میں سولاسی ٹلڈتبا سکرو میرکا فے ہنکی (Early Years Learning Framework) سے کے ہنکی لئے ایک ہر کرو مہر فی وقت جسے یرپ اسچہی ٹلڈتبا روا سولوپین (early childhood) کی میں تخدمت مامت اسے اتا ہمال کیامعتہ یروا ے ناہپڑے عیڈر ے د کصمقا چنپا سے کے ہنکی عملے تا ہرکی ائمہرہنی کی جس سے لم دمیں مد ے اء بنبلط لابق روا طوبضکو م سوچہتی۔ ے ہر کا تپے ہنکی سسرانچھا کھاا ے کے سوچمقصد ہے، وس سچھا محابارے میں ے پنا روا ے فعال رہن ے نرک سے رپ تباذج ے پنا روا ے کرر کاوتسا تقاتلنع طوبضم ے چہ۔ بے قلعتم دسلصاح سرتہ کا دوہہبو حفلما ے کرک ایک وراس پسحا طوبضم انتحص ے چہیں۔ بے اتھچڑ کاخور شخب کا انبارے میں ے کے نرک باختہ سمیں سمیورگرس نامسج روا ہیں ے تھکی حینل حصے، روا ے کے مند بندت حصہ روا طوبضم لئے ہکیس ارتیں ہمہ کی ے رہن کرحتم تے ہیں۔

Early Years Learning Framework کے تومالمد معیارے میں مز کے لئے: <https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-being-and-becoming-early-years-learning-framework-australia>

اسکول میں سیکھنا

طلباء محسوس کرتے ہیں کہ وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے مثبت تعلقات ہیں اور ان میں آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کی طاقت ہے (تمام مضامین)

طلباء میں آرٹس کے ذریعے سماجی، جذباتی اور جسمانی بہبود پروان چڑھتی ہے (مضمون: تخلیقی آرٹس)

طلباء اپنے جسم کی دیکھ بھال کی غرض سے صحتمندانہ چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں (مضمون: جسمانی تعلیم)

طلباء دوسروں کی دیکھ بھال اور عزت کر سکتے ہیں (مضمون: جسمانی تعلیم)

ابتدائی عمر میں سیکھنا

بچے جانتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور خوشی محسوس کر سکتے ہیں

بچے جانتے ہیں کہ صحت بخش خوراک کا انتخاب ان کے جسم کو بڑھنے اور مضبوط رہنے میں مدد دیتا ہے

بچے دوسروں کے ساتھ مل کر کھیل اور سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بارے میں اچھا محسوس کر سکتے ہیں

بہبود کے ایک مضبوط احساس سے مراد ہے:

بچے کھیل، میوزک، بصری آرٹ، حرکات و سکنات اور ڈانس کے ذریعے اپنا اظہار کر سکتے ہیں